

Education of Board State Illinois

Springfield, Illinois 62777-0001 • 100 North First Street
www.isbe.net



.Tony Smith, Ph.D
State Superintendent of Education

James T. Meeks
Chairman

July 6, 2017

محترم اہل خانہ،

الینوائے اسٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن (آئی ایس بی ای) ہر ایک بچے کو کالج اور کریئر کے لیے تیار کرنے میں مصروف عمل ہے۔ آپ کے بچے کی بہبود اور کامیاب تعلیم میں اعانت کے لیے ہم آپ کو بطور شراکت داران تسلیم کرتے ہیں۔

ہمارے اسکولز ACCESS 2.0 نامی ایک جانچ کا استعمال ہر ایک انگریزی سیکھنے والے (ای ایل) کی زبانانی اعانت خدمات کی ضروریات اور اس بات کا تعین کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ان خدمات کو وصول کرنے سے کب ترک کرنا ہے۔

ACCESS 2.0 کو حال ہی میں کالج اور کریئر کے لیے مستعدی کے معیارات کے مطابق بنایا گیا ہے اور اب اسکور زیادہ درستگی کے ساتھ بچے کی انگریزی زبان کی مہارت کی سطح دکھاتے ہیں۔ کامیابی کی کارکردگی پر وسیع تر معلومات کا جائزہ لینے اور اساتذہ، پرنسپل اور سپرنٹنڈنٹ سمیت تعلیم کے ماہرین کے ساتھ مشورے کے بعد، ہم نے یہ طے کیا کہ ای ایل زمرہ بندی سے خارج ہونے کے لیے ACCESS 2.0 میں 4.8 کا مخلوط اسکور ضروری ہوگا۔ اس اسکور کا اطلاق سابقہ 17-2016 تعلیمی سال سے ہوگا۔

آئی ایس بی ای تسلیم کرتا ہے کہ موجودہ انگریزی سیکھنے والوں (ای ایل) کو زبانانی اعانت کی خدمات سے باہر نکلنے کا معیار بڑھانے کا مطلب ہے کہ کچھ طلبا کو شاید طویل مدت تک خدمات کی ضرورت ہو۔ آئی ایس بی ای کو یقین ہے کہ اس فیصلہ سے انگریزی سیکھنے والے طلباء اسکول میں کامیابی کے لئے بہتر طور پر تیار ہوں گے۔ ذیل کا لنک ACCESS کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتا ہے:

https://www.wida.us/Assessment/ACCESS%202.0/documents/UnderstandingScores/WI_DA_flyer_cut%20score%20parents.pdf

اگر آپ کے سوالات ہوں، تو براہ مہربانی اپنے اسکول کے عملہ یا ڈسٹرکٹ کے انگلش لرنر ڈائریکٹر سے رابطہ کریں۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کا بچہ - اور الینوائے کے تمام طلباء - کالج، کریئر اور اس سے پرے کے لیے اچھی طرح تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے متمنی ہیں۔

آپ کا مخلص،

جیسن اے ہیلفر، پی ایچ ڈی۔
ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ برائے تدریس و آموزش
الینوائے اسٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن